

## فہرست

صفحہ نمبر	نمبر شمار
3	1 حرف اول
12	2 دیباچہ انگریزی ناشر
14	3 دیباچہ از مصنف
21	4 آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟
24	5 عظیم امریکی رہنماؤں کا مصنف کوخراج تحسین
	① پہلا باب
27	1 تعارف
29	1 وہ شخص جس نے تھامس ایڈیسن کے ساتھ شراکت کرنے کی سوچ کو حقیقت میں بدلا
33	2 سونے سے تین فٹ دور
36	3 استقامت میں پچاس سینٹ کا ایک سبق
44	4 آپ ”اپنی قسمت، روح کے مالک ہیں“ کیونکہ
	① دوسرا باب
49	2 خواہش

55	وہ اقدامات یہ ہیں	1
64	خواہش قدرت کو بھی پچھاڑ دیتی ہے	2
	① تیسرا باب	
75	یقین	3
77	یقین کیسے پیدا کیا جائے	1
81	ایمان یا یقین کی ایک کیفیت اپنے آپ کو مشورہ دینے سے پیدا کی جاسکتی ہے	2
84	خود اعتمادی کا فارمولا	3
92	عشائیے کے بعد ایک ارب ڈالر کی زبردست تقریر	4
	① چوتھا باب	
101	خود تجویز/خود ایمانی	4
108	ہدایات کا خلاصہ	1
	① پانچواں باب	
111	تخصیصی علم	5
117	علم کیسے خریدنا ہے کا جاننا بہت فائدہ دیتا ہے	1
119	سب سے زیادہ مطلوب ماہرین	2
120	شاگردی کی تجویز	3

124	اب ہم ایک مخصوص مثال پر غور کرتے ہیں	4
	① چھٹا باب	
133	تخیل	6
136	تخیل کی دو اقسام	1
140	تخیل کا عملی استعمال کیسے کیا جائے	2
143	کچھ لمحے رکھیں اور اس بارے میں سوچیں	3
143	اگر میرے پاس دس لاکھ ڈالر ہوں تو میں کیا کروں گا	4
	① ساتواں باب	
151	منظم منصوبہ بندی	7
155	یہ حقائق بھی اپنے ذہن میں رکھیں	1
158	خدمات کی فروخت کی منصوبہ بندی	2
159	رہبری کے اہم اوصاف	3
161	قیادت دو طرح کی ہے	4
163	قیادت میں ناکامی کے دس بڑے اسباب	5
166	بعض زرخیز شعبے جن میں ”نئی قیادت“ درکار ہوگی	6
168	کسی بھی عہدے کے لیے کب اور کیسے درخواست کرنی ہے	7
169	تحریری ”خلاصہ“ (Brief) میں دی جانے والی معلومات	8

173	جو منصب چاہتے ہیں ٹھیک وہی کیسے حاصل کریں	9
175	خدمات کی مارکیٹنگ کا نیا انداز ”ملازمتیں اب شراکت ہیں“	10
179	آپ کے معیار اور مقدار کی درجہ بندی کیا ہے؟	11
181	آپ کی خدمات کی اصل قدر	12
183	ناکامی کی تین اہم وجوہ	13
191	اے انسان	14
192	اپنی ذات کا جائزہ	15
192	ذاتی تجربہ	16
196	دولت کمانے کے مواقع کہاں اور کیسے ملیں گے	17
200	وہ معجزہ جس نے یہ خوش بختیاں فراہم کی ہیں	18
	Ⓢ آٹھواں باب	
211	فیصلہ سازی	8
216	کسی فیصلے پر آزادی یا موت	1
	Ⓢ نواں باب	
227	ثابت قدمی	9
238	ثابت قدمی کی کمی کی علامات	1
244	ثابت قدمی کو کس طور فروغ دیا جاسکتا ہے؟	2

250	حضرت محمد ﷺ	3
252	ثابت قدمی ایک ذہنی کیفیت ہے	4
	① دسواں باب	
255	ماسٹر مائنڈ کی طاقت	10
259	ماسٹر مائنڈ کے ذریعے طاقت حاصل کرنا اور ماسٹر مائنڈ کے ذریعے طاقت پانا	1
	① باب گیارہ	
267	تبدیلی جنس کا اسرار	11
272	ذہن کے دس محرک	1
274	دانا چھٹی حس کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے	2
281	کیوں انسان شاذ ہی چالیس برس کی عمر سے قبل کامیاب ہوتے ہیں	3
	① بارہواں باب	
297	تحت الشعور	12
304	سات بڑے مثبت اور منفی جذبات	1
	① تیرہواں باب	
309	دماغ / ذہن	13
313	عظیم ترین قوتیں غیر لمسی ہیں	1
314	ذہن کی ڈرامائی کہانی	2

	① چودھواں باب	
319	چھٹی حس	14
325	خود ایمانی کے ذریعے کردار سازی	1
336	یقین بمقابلہ خوف	2
	① پندرھواں باب	
337	خوف کے چھ آسیبوں کو کیسے زیر کیا جائے	15
341	چھ بنیادی خوف یا خدشات	1
345	غربت کا خوف	2
345	مفلسی اور غربت کے خوف کی علامات	3
351	پیسہ بولتا ہے	4
353	خواتین مایوسی کو چھپالیتی ہیں	5
354	پیسے سے فرق پڑتا ہے	6
355	تکتہ چینی کا خوف	7
358	تکتہ چینی کے خوف کی علامات	8
360	خرابی صحت کا خوف	9
363	بیماری کے خوف کی علامات	10
367	محبت میں ناکامی کا خوف	11

368	محبت میں ناکامی کے خوف کی علامات	12
369	بڑھاپے کا خوف	13
370	بڑھاپے کے خوف کی علامات	14
371	موت کا خوف	15
374	موت کے خوف کی علامات	16
375	تشویش	17
379	شیطان کا کارخانہ ساتویں بنیادی بدی	18
381	منفی اثرات اور خیالات سے کیسے بچا جائے	19
383	تجزیہ ذات کے امتحانی سوالات	20
393	اگر کے ستاون معروف عذر	21

